



میں نہیں سمجھتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات جانتے بھی ہیں

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میں نہیں سمجھتا کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کی کوئی بات جانتے بھی ہیں" لیث بن سعد جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ وہ دونوں آدمی منافق تھے
[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہے کہ آپ ﷺ نے دو لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ دونوں اسلام کو ظاہر کرتے تھے، جب کہ ان کے اندر کفر تھا آپ ﷺ کا ان دونوں لوگوں کی غیر حاضری میں ان کی خامی بیان کرنا اس غیبت کے زمرے میں نہیں آتا جو شریعت میں ممنوع ہے، بلکہ یہ بتانا ضروری تھا، تاکہ ان کا ظاہری حال ان لوگوں پر خلط ملط نہ ہو جائے جو ان سے واقف نہیں ہیں آپ ﷺ کا کہنا "ما أظن" یاں گمان یقین کے معنی میں ہے اس لیے کہ آپ ﷺ منافقین کو حقیقت میں جانتے تھے کہ سورہ براء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم سورہ براءت کو فاضل (رسوا کرنے والی) کہتے تھے مزید فرماتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوتی رہی اور منافقین ظاہر ہوتے رہے، یاں تک کہ ہمیں اپنے بارے میں ڈر ہونے لگا (کہہ کہیں ہم بھی ان کی فہرست میں نہ آجائیں)

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3866>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

